



## Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سورة التغابن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلَّى  
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

.1

پاکی بولتا (تسیح کر رہا) ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں،

صَلَّى  
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

اسی کاراج ہے اور اسی کو تعریف ہے۔

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔

ج  
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ

.2

وہی ہے جس نے تم کو بنایا، پھر کوئی تم میں منکر ہے اور کوئی تم میں ایماندار۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

اور اللہ جو کرتے ہو دیکھتا ہے۔

.3

خَلَقَ اللَّهُمَّ سَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بِالْحُكْمِ وَصَوَرَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُورَ كُمْ

بنائے آسمان اور زمین تدبیر سے، اور صورت کچھی تمہاری، پھر اچھی بنائی تمہاری صورت،

وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

اور اسی طرف پھر (لوٹ) جانا ہے۔

.4

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں،

وَيَعْلَمُ مَا تُسْرِعُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ

اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو کھولتے ہو۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اور اللہ کو معلوم ہے جیوں (دلوں) کی بات۔

.5

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبْيُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ

کیا پہنچا نہیں تم کو احوال ان لوگوں کا، جو منکر ہو چکے ہیں پہلے۔

فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

پھر چکھی سزا اپنے کام کی، اور ان کو دکھ کی مار (عذاب) ہے۔

.6

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ مُرْسَلُهُمْ بِالْبُيْنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرُ يَعْدُونَا

یہ اس پر کہ لاتے تھے ان پاس ان کے رسول نشانیاں، پھر کہتے، کیا آدمی ہم کو راہ سو جھائیں (دکھائیں) گے؟

فَكَفَرُوا وَتَوَلُّوا

پھر منکر ہوئے اور منہ موڑا

وَأَسْتَغْنَى اللَّهُ

اور اللہ نے بے پرواہی کی۔

وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِّيْ حَمِيدٌ

اور اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں سراہا۔

رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ لَنَ يُبَعْثُرُوا

دعوے کرتے ہیں منکر کہ ہر گزان کو اٹھانا نہیں۔

قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَسْبُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ

تو کہو، کیوں نہیں! قسم ہے میرے رب کی! تم کو بیشک اٹھانا ہے، پھر تم کو جتنا ہے جو تم نے کیا،

وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

يَأَمْوَأِبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلَنَا

سو ایمان لا اور اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اُتارا۔

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

اور اللہ کو تمہارے کام کی خبر ہے۔

.7

.8

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جس دن تم کو اکھڑا کرے گا جمع ہونے کے دن،

ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وہ دن ہے ہار جیت کا۔

وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَدِيقًا كَفَرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ  
وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ كَفَرًا فَعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ

اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کام بھلا، اُتارے اس سے اس کی برا ایاں،

وَيُنْدُخِلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  
وَيُنْدُخِلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

اور داخل کرے اس کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ندیاں، رہا کریں اس میں ہمیشہ۔

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا أُبَيَا يَتَّبِعُهُمْ أَصْحَابُ الْأَنَارِ خَلِدِينَ فِيهَا  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا أُبَيَا يَتَّبِعُهُمْ أَصْحَابُ الْأَنَارِ خَلِدِينَ فِيهَا

اور جو منکر ہوئے اور جھٹلاکیں ہماری آئیں، وہ ہیں دوزخ والے، رہا کریں اس میں۔

وَبِئْسَ الْمُصِيدِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور بری جگہ پہنچے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نہیں پڑتی کوئی تکلیف بن حکم اللہ کے،

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر، راہ بتادے اس کے دل کو۔

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

اور حکم مانو اللہ کا، اور حکم مانور رسول کا۔

فَإِن تَوَلَّهُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُفْتَنُونَ

پھر اگر تم منہ موڑ تو ہمارے رسول کا کام یہی ہے پہنچادینا کھول کر۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اللہ! اس بن کسی کی بندگی نہیں۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

اور اللہ پر چاہیئے بھروسا کریں ایمان والے۔

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا إِنَّمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَارِّةً وَأَوْلَيْكُمْ عَدُوًا لَّكُمْ فَأَحْذِرُوهُمْ

اے ایمان والو! بعضی تمہاری جورویں (بیویاں) اور اولاد دشمن ہیں تمہارے، سوان سے بچتے رہو۔

وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور اگر معاف کرو اور در گذر کرو اور بخشو تو اللہ ہے بخششہ والامہربان۔

.12

.13

.14

.15

إِنَّمَا آمُوا لِكُمْ وَأُولُو الْكُمْ فِتْنَةٌ

تمہارے مال اور اولاد یہی ہیں جانچنے کو۔

وَاللَّهُ عِنْدُهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

اور اللہ جو ہے اس کے پاس ہے نیگ (اجر) بڑا۔

.16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أُنْتُمْ كَاخْتَمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفَقُوا أَخْيَرَ إِلَّا نَفْسِكُمْ

سوڈرواللہ سے جہاں تک (ڈر) سکو۔ اور سنو اور مانو، اور خرچ کرو اپنے بھلے کو۔

وَمَنْ يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور جس کو بچادیا اپنے جی کے لاچ سے، سودہ لوگ وہی مراد کو پہنچے۔

.17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ

اگر قرض دواللہ کو اچھی طرح قرض دینا، وہ دونا کر دے گا تم کو، اور تم کو بخشے۔

وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

اور اللہ قادر ان ہے تحمل والا۔

.18

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهِدَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

جاننے والا چھپے اور کھلے کا، زبردست حکمت والا۔